

**BEFORE THE SERVICE TRIBUNAL K.P.K PESHAWAR.**

S. Appeal No. of 2020.

1. Shafi Ullah S/O ahir Shah Regulation Jamadar sub Division  
Dargai. ....Appellant.

**VERSUS**

1. Govt of K.P.K Through Chief Secretary - Civil Secretariat  
Peshawar. ....Respondents.

**Index**

S.NO.	Description	Annexure	Pages
1.	S. Appeal		1-7
2.	Affidavit		7
4.	Copy of the order	A	8
5.	Copies of relevant	B	9-16
6.	Copies of the suit and order	C	17-21
8	Copies of show case	D	22
9.	Copies of the reply	E	23-29
10.	Copy of the order	F	30
11	Copies of allegations, charge sheet, questions of inquiry	G	31-39
12	Wakalat Nama		40

**Through**

**Petitioner**

**L. Nawab Ali Noor**  
**Advocate High Court Peshawar.**  
**03469076945**

1

**BEFORE THE SERVICE TRIBUNAL K.P.K PESHAWAR.**

S. Appeal No. of 2020.

1. Shafi Ullah S/O ahir Shah Regulation Jamadar sub Division Dargai. ....Appellant.

**VERSUS**

Khyber Pakhtunkhwa Service Tribunal

1. Govt of K.P.K Through Chief Secretary Civil Secretariat Peshawar.

Registry No. 16293  
Dated 08/12/2020

2. Chief Engineer North Irrigation Department K.P.K at Kababiyani, Peshawar.

3. Executive, Engineer Malakand Irrigation Division Malakand.

4. Enquiry officer / S.D.O Drainage Irrigation sub Division Mardan, *S. D. O* .....Respondents.

Appeal under section -4 of the N.W.F.P service tribunal Act 1974 against the order dated 20.8.2020, through which appellant was awarded Major penalty dismissal from Govt service to compulsory retirement from the Govt service with immediate effect.

Prayer:

On acceptance of this appeal the order dated 20.8.20 of the respondent no.3 may please be set aside and may please restore the service of the appellant with all back benefit.

**RESPECTFULLY SUBMITTED,**

Filed to-day  
2/12/2020

1. That appellant was appointed as regulation beldar in irrigation department vide notification no.499/7-E SUB Dated 28.2.2004. **Copy of the order as annexure A.**
  
2. That appellant has tried his level best to performed his duty with full devotion and till date no complaint is there of his miss conduct nor any other allegation over the same .
  
3. That appellant as citizen of Pakistan / president of KPIEF KPK always rose his voice against the corruption , illegalities , irregularities , favrism, nepotism a well as for the betterment of his colleagues , civil servants lead his unity with full devotion and done his best what he can. **Copies of relevant as annexure B.**
  
4. That in this respect appellant filed a declaratory suit before the scj which was dispose off between the parties. **Copies of the suit as annexure C.**
  
5. That it is to be noted by your honor that right from the begging a lot of interference of the political setup along with officers whom always obliged the blue eyed persons same time ignored the poor civil servant or those whom were entitled whom ignored , petitioner being citizen of Pakistan as well as president done his duty according law rules as result respondents and high officials along with political setup was

very much aggrieved from petitioner.

6. That It is further to be noted being aggrieved from the same respondents firstly threatened, warned to shut up the appellant and when petitioner didn't care the same respondents alleged baseless allegations on basis of which served show cause notices over the appellant.

*Copies of show cause as annexure D.*

6. That appellant properly submitted detail reply on 4.3.20, 1.7.20 and 23.7.20 of the show cause notices as well as submitted copies of the civil suit, statements and judgment / order of the court mentioned the status of Employees union CBA no. 1389 irrigation department. **Copies of the replies as annexure E.**

7. That may see no inquiry, no personal hearing, no cross examination no evidence even all mentioned done under the one roof of office with malafide intention bulldoze the basic constitutional rights of the appellant directly impose the major penalty dismissal from the service *to compulsory retirement from Govt service with immediate effect.* Copy of the order as annexure F.

8. That may see so called show cause notice 23.7.20 only allegations of black mailing / Defamation of Govt officers /

officials through print and electronic media same is general allegations nor mentioned any verdict nor mentioned any name of any officers/ officials what is this? weather on same ground a civil servant is liable to award Major penalty or compulsory retirement only on this ground?.

9. That may visit the statement of allegations, charge sheet, office order, question of inquiry is no more than joke?  
**Copies of allegations, charge sheet, questions of inquiry as annexure G.**

10. That so much so may see the harassment / punishment of the appellant as well as family of appellant, little kids that appellant first dismissed from service the then compulsory retired without any justified reason only and lonely reason that why he raise voice for the rights of the people, why he rose against the corruption, why he is talking to print or electronic media? why he not got permeation for any statement to print or electronic media from officers? Why he disturb the officers/ officials? but till date not a single officer not any officials is aggrieved before any inquiry nor before any competent forum.

That having aggrieved from all mentioned entire processes which is no relevancy with law same time violation of the service rules / constitution of Islamic republic of Pakistan 1973 appellant approach this Honorable forum on following amongst others:

**GROUNDS:**

- a. That over the political intervention, malafide intention baseless charges appellat under the punishment same is continue is/was against the service rules ,illegal , unlawful, unconstitutional act of the respondents hence need the same to be declare illegal unlawful, unconstitutional liable to be set aside.
- b. That when there is nothing in field no proper inquiry is there nor made responsible the appellat for any specific ,relevant misconduct , corruption, illegalities' or any specific crime committed or violation of any law, hence question of discrimination before this Honorable court.
- c. That till date no such like action was aver taken nor over the mentioned general allegations any president is present was there for civil servant nor respondents have right to initiate the same which is also violation of the constitution and service rules on base of the same order in question liable to be set-aside.
- d. That under what law and circumstances punishment of the appellat was awarded when no fault and default on part of appellat reason best known to them

- e. That under the constitution appellant has the same rights like other but same not extended equally, which is injustice.
- f. That act of the respondent, to pick and chose is not justified at any cost.
- g. That respondents adopt the policy of pick and chose which is against service rules and basic provision of the constitution.
- h. That action on the part of respondents amount to misuse of power and approach beyond from the jurisdiction under the law mentioned for.
- i. That superior court repeatedly delivered judgment in respect Art.4, 25 etc and present case respondents violate the same also.
- j. That under the law being civil servant same is the negligence of the respondents with malafide intention.

**It is therefore most humbly prayed that on acceptance of this appeal this honorable court may graciously be pleased to set aside / declare , null and void all mentioned processes and order dated 20.8.20 of respondent no.3 and appellant service may kindly be restore from the date of dismissal / compulsory retirement.**

Direct the respondents to treat the appellant according the law.

May please awarded any other relief for which appellant entitled not specifically mentioned deem appropriate may also awarded.

شفيع الله

Appellant

Through

L.Nawab Ali Noor  
Advocate High Court  
Peshawar.

Certificate: certified that no such like S.Appeal is before this Honorable trabunil.

AFFIDAVIT.

I, Shafi Ullah S/O ahir Shah Regulation Jamadar sub Division Dargai ,do solemnly affirm and declare on oath that the contents of the accompanying S. Appeal are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing been kept concealed from this Honorable Trabunil.

Identified by

L.Nawab Ali Noor Advocate  
03469076945



Deponent



Annex A (8)

(8)

No.  
To

499

7-E(Sub)

Dated Malakand the 28/03/2004

Mr. Shafiullah,  
Son of Zahir Shah  
Village and P.O. Piran (Gul Nargis),  
Malakand Agency

Subject:-

APPOINTMENT AS A REGULATION BELDAR BASIC PAY SCALE No. (2) (1915-65-3865) IN AMANDARA SECTION.

As per decision of Government vide Notification No. SOR(VI)E&AD, dated 30.6.2003, you are hereby offered a post of Regulation Beldar BPS No. (2) (1915-65-3865) against the vacant post of your father died on 16.09.2000 with the following conditions:

1. The appointment is purely on contract basis in Basic Pay Scale No. (2) (1915-65-3865) Per Month plus usual allowances as admissible under the contract policy of the Government.
2. Your employment in this Division is purely on contract basis and your services may be terminated without any notice and reasons being assigned at any time.
3. You will have to join ~~down~~ your own expenses.
4. You will have to produce a medical certificate.
5. You will have to produce a Government certificate.
6. You will have to produce a certificate that you are not a dismissed Government Servant.
7. Your services will be governed by Contract Policy Rules 2002 vide No: FD (SOSR-11/12-1/02, dated 25.10.2002).
8. If you accept the post on the above mentioned conditions you shall report for duty to the undersigned upto 15/03/2004.
9. You should also bring copy of Pension Book of your father for verification of Service Record.

Executive Engineer,  
Malakand Irrigation Division,  
Malakand.

- Copy to:-
1. Superintending Engineer, Northern Irrigation Circle Malakand for information please.
  2. P.S. to Minister for Irrigation & Power MWIP, Peshawar for information please.
  3. Agency Accounts Officer, Malakand for information please.
  4. SDQ Irrigation Head Works Malakand for information and necessary action.
  5. DAO/IC (Local) for information.

Attested to be True  
Copy

Executive Engineer,  
Malakand Irrigation Division,  
Malakand.

**KHIBER PAKHTOON KHWA IRRIGATION EMPLOYEES FEDERATION**

خیبر پختون خواہ ایریگیشن ایسوسی ایشن ایگزیکٹو ڈویژن ڈویژن ملاکنڈ

ہیڈ آفس چیف انجینئر آفس محکمہ ایریگیشن صوبہ خیبر پختون خواہ

درسک روڈ کبابیان پشاور

ڈویژن آفس: ایریگیشن آفس نہر بنگلہ درگنی ملاکنڈ

رجسٹریشن ملاکنڈ ڈویژن C.B.A 1389

.....PWF

صدر شیخ اللہ 0343-5319327



جنرل میگزینی حنا جی سیجیانی مکمل

Ref No. \_\_\_\_\_

ایریگیشن ایسوسی ایشن یونین کے انتخابات کی تیاریوں شروع

نتیجہ قیادت سے ملازمین کے مسائل حل ہو سکیں گے گل زمین

پت تلہ (پشاور ڈسٹرکٹ) سوبائی لیبر وینڈر اور محکمہ کے اجلاس کی جہاں فیروز کھڑا کر دی گئی ہیں محکمہ کے آفس (پانی سٹو 27 نومبر 13)

13  
ملازمین کے مسائل کے حل اور ریلیف کی راہ میں مدد کے لیے ایسوسی ایشن یونین کے سوبائی لیبر وینڈر اور محکمہ کے اجلاس کی جہاں فیروز کھڑا کر دی گئی ہیں محکمہ کے آفس (پانی سٹو 27 نومبر 13)

ABC CERTIFIED MEMBER APNS/CPNE

Daily AZADI Swat

سوات آزادی روزنامہ

چیف ایڈیٹر

پبلشر

24 جولائی 2018ء | 27 جولائی 2018ء | 10 جولائی 2018ء | 16 جولائی 2018ء | 20 جولائی 2018ء | 27 جولائی 2018ء | 3 جولائی 2018ء

ریٹائرڈ ملازمین کے کوٹے پر میرٹ پر مبنی ہوگی، آفتاب خان

ایسوسی ایشن نے ریٹائرڈ ملازمین کے بیٹوں کو پبلشر قیادت کر دیا  
پت تلہ (پشاور ڈسٹرکٹ) سوبائی لیبر وینڈر اور محکمہ کے اجلاس کی جہاں فیروز کھڑا کر دی گئی ہیں محکمہ کے آفس (پانی سٹو 27 نومبر 13)

55  
ایسوسی ایشن نے ریٹائرڈ ملازمین کے بیٹوں کو پبلشر قیادت کر دیا  
پت تلہ (پشاور ڈسٹرکٹ) سوبائی لیبر وینڈر اور محکمہ کے اجلاس کی جہاں فیروز کھڑا کر دی گئی ہیں محکمہ کے آفس (پانی سٹو 27 نومبر 13)



پت تلہ (پشاور ڈسٹرکٹ) سوبائی لیبر وینڈر اور محکمہ کے اجلاس کی جہاں فیروز کھڑا کر دی گئی ہیں محکمہ کے آفس (پانی سٹو 27 نومبر 13)

Attached

**خیبر پختون خواہ ایریگیشن ایمپلائز فیڈریشن ایریگیشن ڈویژن ملاکنڈ**

ہیڈ آفس چیف انجینئر آفس محکمہ ایریگیشن صوبہ خیبر پختون خواہ

درسک روڈ کابیان پشاور

ڈویژن آفس ایریگیشن آفس نہر بنگلہ درگئی ملاکنڈ

C.B.A 1389 رجسٹریشن ملاکنڈ ڈویژن

.....PWF

صدر شفیق اللہ 0343-5319327




حاجہ سجاد علی خان  
جنرل سیکرٹری

0343-2208140

ABC CERTIFIED



جلد نمبر 15، شمارہ نمبر 27، تاریخ 20/01/2018، ہفت روزہ، 16/1433ھ، 2074ء، پبلشر 8/15/2018ء، 58



**بٹ خیالہ ایریگیشن ایمپلائز یونین کے انتخابات کی تیاریاں شروع**

بٹ خیالہ ایریگیشن ایمپلائز یونین کے انتخابات کی تیاریاں شروع کی گئی ہیں۔ یونین کے صدر نے کہا کہ انتخابات کی تیاریاں شروع کی گئی ہیں اور تمام امیدواروں کو اپنا نام جمع کروانے کی درخواست کی ہے۔



بٹ خیالہ ایریگیشن ایمپلائز یونین کے صدر اور دیگر افسر

بٹ خیالہ ایریگیشن ایمپلائز یونین کے انتخابات کی تیاریاں شروع کی گئی ہیں۔ یونین کے صدر نے کہا کہ انتخابات کی تیاریاں شروع کی گئی ہیں اور تمام امیدواروں کو اپنا نام جمع کروانے کی درخواست کی ہے۔

**پہلے توں ہوئی با آفتاب ماں**

پہلے توں ہوئی با آفتاب ماں، یہ شعر ہے ایک شاعر نے لکھا ہے۔ اس شعر کا مطلب ہے کہ ماں کی محبت اور شفقت ہمیں ہمیشہ روشن رکھتی ہے۔

19

اس شعر کے بارے میں مزید جاننے کے لیے اس صفحہ پر کلک کریں۔

Ann. B-11

KHYBER PAKHTOON KHWA IRRIGATION EMPLOYEES FEDERATION

خیبر پختون خواہ ایریگیشن ایسپلائز فیڈریشن ایریگیشن ڈویژن ملاکنڈ

ہیڈ آفس چیف انجینئر آفس محکمہ ایریگیشن صوبہ خیبر پختون خواہ

ورسک روڈ کبابیان پشاور

ڈویژن آفس ایریگیشن آفس نہر بنگلہ درگئی ملاکنڈ

C.B.A 1389 رجسٹریشن ملاکنڈ ڈویژن



.....PWF

صدر شیخ اللہ 0343-5319327



جزل میگزنی حاجی محمد سبحان گل

Ref No.

Dated

آئین اور قانون کی بالادستی کا قلمبردار

Daily  
Aeen  
Peshawar

روزنامہ آئین

Chief Editor  
Rahatullah Khan

راحت اللہ خان

ABC CERTIFIED

جلد 29، شمارہ 27، روزی 10، 2018، 14 جنوری، 1439ھ، 10 جنوری، 10

ایکسپن ایریگیشن ملاکنڈ نے تقریباً دو ہفتوں کے آؤڈیٹ کے دوران کی گئی ہے

تقریباً دو ہفتوں کے ملازمین کے پتوں میں باقی جانے والے پیسے کی حتمی حوالگی ہو چکی ہے

پشاور (اے این) صوبائی سربراہ اور دیگر اہل ذمہ داروں نے اس موقع پر خطاب کیا اور کہا کہ اس موقع پر تمام ملازمین کو مطلع کیا گیا ہے کہ وہ اپنی باقی ماندگی کی حتمی حوالگی کر لیں۔

ایریگیشن ایسپلائز یونین کے انتخابات کی تیاریاں جاری

پشاور (اے این) صوبائی سربراہ اور دیگر اہل ذمہ داروں نے اس موقع پر خطاب کیا اور کہا کہ اس موقع پر تمام ملازمین کو مطلع کیا گیا ہے کہ وہ اپنی باقی ماندگی کی حتمی حوالگی کر لیں۔

ایریگیشن ایسپلائز یونین کے انتخابات کی تیاریاں جاری ہیں۔ اس موقع پر تمام ملازمین کو مطلع کیا گیا ہے کہ وہ اپنی باقی ماندگی کی حتمی حوالگی کر لیں۔

Handwritten signature and initials.





Gul Zameen  
President  
0333-0287000

Recognized by The K.P.K Government of Pakistan

پی ڈبلیو ڈی لیبر یونین سی اینڈ ڈبلیو خیبر پختونخواہ

P.W.D Labour Union K.P.K

Habib Nawaz  
V. President  
0333-9730676

C&W Deptt:Reg: No: 43 C.B.A

PAKISTAN WORKER FEDERATION

Syed Ghafar Shah  
D. G. Secretary  
0301-8365419

Head Office: Fahim Plaza Flat # B-5 Hashtnaghari Peshawar

Ref No: L.U.P.

Date:

روزنامہ سوات 40

وزیر اعلیٰ عمران خان کے اعلان پر عمل کرتے ہوئے اور یہ  
معاہدوں کو ختم کرنے کی بات پر عملدرآمد نہیں ہوئی  
سیکشن کے رکنگیشن جھڑپوں سے نکلنے کو چاہی رہا تھا  
کہ وہ کیا ہوگا جو انصاف اور قانون کے تقاضوں کو پورا نہیں  
کرتا۔ چری اور جھڑپوں کے باوجود کوئی اور عمل نہیں  
کیا گیا تو انصاف کے لئے عدالت کا دروازہ کھٹکا گیا۔  
ان خلاف ورزیوں کا اظہار پی ڈبلیو ڈی لیبر یونین نے  
کے سربراہی صدر گل زمین خان اور سٹی صدر ایچ بی  
اور سیکشن شیخ اٹھ خان نے حکومت پر پیش کیا جس میں  
جنگلی پولیس کانسٹبل کے ساتھ ساتھ پولیس پر  
صدر گل زمین خان نے کہا کہ ہم نے ٹکرا کر پولیس کو  
میں خلاف ورزی نہیں کی۔ بلکہ قانونی پروسیجر اور  
کے ایکٹیں اور پولیس میں ملوث سمیت دیگر اہلکاروں کے  
ڈگری میں اسے رشتہ داروں کو ڈرانے کے خلاف آواز  
بند کیا ہے اور ہمیں کوئی قسم کی طاقت ہونے والے کارکن  
کے ہیں اور ایکٹ کو کھینچنے کی بات کی ہے جس پر  
عمل نہیں ہوگا۔ ڈگری سیکشن کے رکنگیشن جھڑپوں اور  
ڈبلیو ڈی لیبر یونین کے سٹی صدر شیخ اٹھ خان کا کہنا  
کا تھانہ مانتے ہوئے اور اس پر ایک میٹنگ کا اہتمام کیا  
چری اور جھڑپوں کے خلاف عدالت چلانی کے لئے ہیں  
مالاکنگ میں نے رکنگیشن اور خلاف ورزیوں کے خلاف  
آواز دہرا کر اعلیٰ عمران خان کے درجن کے ساتھ مل کر  
جس کی سربراہی چلانی ہے اور چری اور جھڑپوں کے ساتھ  
ساتھ ہمارے لیبر یونین کے خلاف کسی قسم کی سازش اور  
انگیزاؤں کے چاہے ہیں مالاکنگ ہائی پوٹنٹ  
1954 سے آج تک سازشوں میں شامل ہے اور ہمارا دفتر سوات  
میں نہیں بلکہ پشاور میں ہے۔ سربراہی صدر نے کہا کہ  
پولیس مالاکنگ میں سیاسی اثر و رسوخ اور ڈی پی پی  
پر پروٹیکشن اور ہتھیاروں کے لئے ہیں جو کہ غریب ملازمین کی  
حق نہیں اور انصاف کے تقاضوں کے باہل نہیں ہیں جس  
کے خلاف کسی صورت میں اس لئے ہم ڈی پی پی کی  
اشی کریشن سمیت دیگر متعلقہ کام سے غیر جانبدارانہ  
انگیزاؤں اور چری اور جھڑپوں کے لئے رکنگیشن جھڑپوں  
کوئی انور جھل کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں اور  
انصاف کے لئے عدالت سے رجوع کر چکے اور احتجاج  
پر مجبور ہو چکے جو کہ کوئی روایت اور بات نہیں ہے۔  
زمین نے کہا کہ پولیس مالاکنگ پولیس میں ملوث  
روئے اور خلاف ورزیوں کا سربراہی جھڑپوں کے خلاف  
اور سے کی جاتی ہو رہی ہے اس لئے اس کا اور  
اہلکاروں کو انور جھڑپوں کا مطالبہ اور حکومت ملازمین کے  
خلاف پار پار طاقت کا نشانہ بن کر انگریزی کی جانے کہ  
ایک ان حکومت ملازمین کو ڈی پی پی پر حاضر نہیں کیا  
چاہئے۔

ABC CERTIFIED DAILY CHAND SWAT CPNE

روزنامہ سوات

عوام کی آواز

پروف ایڈیٹر رشید اقبال

Reg No. 475

جمعرات 27 اگست 2020، 07 محرم الحرام 1441ھ

مالاکنگ (پشاور) پاکستان کشمیر اور وزیر اعلیٰ گل زمین خان کے خلاف پولیس چارج  
رہنما گل زمین نے متعلقہ کام کو باہت کی کہ وہ کوئی بھی سے سیکشن میں ملوث ہیں اور اس میں ملوثی کی صورت میں  
پولیس ریٹ اپس روڈ کی ڈیوٹی کے سروس پر غیر ملکی پتہ جانے اور اس میں ملوث (پتہ 41 ملو 7)

محکمہ اریگیشن ملاکنڈ میں گھوسٹ ملازمین تعینات

پی ڈبلیو ڈی لیبر یونین نے تحقیقات اور جوڈیشل انکوائری کرانے کا مطالبہ کر دیا

ڈگری (پشاور) پی ڈبلیو ڈی لیبر یونین نے غیر ملکی پتہ جانے اور اس میں ملوثی کی صورت میں  
نے گل زمین سیکشن مالاکنگ کے گھوسٹ ملازمین کی ڈیوٹی سے غیر جانبدارانہ اور جوڈیشل انکوائری کرانے کا مطالبہ کر دیا  
غیر ملوثی اور پولیس میں رشتہ داروں کو ڈرانے اور غیر کریشن کے نائنے کے (پتہ 40 ملو 7)



حاکم پی ڈبلیو ڈی لیبر یونین کے سربراہی صدر گل زمین شیخ اٹھ خان کے ہمراہ پولیس کانسٹبل کے ہیں

Attested

Ann. B - 14



پاکستان زندہ باد || بناؤ سجاؤ پاکستان || مزدور اتحاد پائندہ باد

Recognized by The K.P.K Government of Pakistan

پی ڈبلیو ڈی لیبر یونین سی اینڈ ڈبلیو خیبر پختونخواہ

Gul Zameen  
President  
0333-0287000

**P.W.D Labour Union K.P.K**

Habib Nawaz  
V. President  
0333-9730676

C&W Deptt:Reg: No: 43 C.B.A

**PAKISTAN WORKER FEDERATION**

Syed Ghafar Shah  
D. G. Secretary  
0301-8365419

Head Office: Fahim Plaza Flat # B-5 Hashtnaghari Peshawar

Ref No: \_\_\_\_\_ L.U.P \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

روزنامہ پشپاٹ، جمعرات 27 اگست 2020ء

# محکمہ ایشیا کے سرگرمیوں کے خلاف ملازمین کی بھارتی حکومتوں سے درخواستیں

ڈیوٹی سے غیر حاضر گھوسٹ ملازمین مفت میں تنخواہیں لے رہے ہیں، نوکریوں میں رشتہ داروں کو نوازنے اور غیر قانونی پروموشن دینے کیخلاف ہے، پی ڈبلیو ڈی

روانہ کی (نام نہاد، خصوصی) پی ڈبلیو ڈی لیبر یونین نے غیر پختونخواہی کے سرگرمیوں کے خلاف ایک نئی حکومت ملازمین کی ڈیوٹی سے غیر حاضر ہونے پر نوکریوں میں رشتہ داروں کو نوازنے اور غیر قانونی پروموشن دینے پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے غیر جانبدار سنا اور جرنل انگریزی کے نام کا مطالبہ کیا ہے۔

روانہ کے گورنر جنرل صاحب نے ایک وفد کے ساتھ ملازمین کی درخواستوں کا جائزہ لیا اور ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اقدامات کیے۔



ایسے رشتہ داروں کو نوازنے کے خلاف آزاد پبلک کی ہے اور ہمیشہ کو سسٹم، وفات پانے والے ملازمین کے بچوں اور اقدار کو بھرتی کرنے کی بات کی ہے جس پر گورنر جنرل نے ملازمین کی سیکشن کے سرگرمیوں کو جھڑپوں اور پی ڈبلیو ڈی لیبر یونین کے سرگرمیوں کو جھڑپوں کا روک ٹوک کا نفاذ ہونے اور اس پر ایک سٹیبلنگ کا اقدام لیا گیا ہے۔

پشاور میں پی ڈبلیو ڈی لیبر یونین کے سرگرمیوں کے خلاف ایک پریس کانفرنس میں شرکت کرنے والے ہیں۔

Attached



Ann B-15

Khyber Pakhtunkhwa Irrigation Employees Federation k.P.K Peshawar  
(Reg No 06/2008)

Add: Chief Engineer Irrigation South Warsak Road Kababyan Peshawar.

President. S.Tahsinullah  
Cell:0346-5663356

Vsp.Sadaqat Ali  
Cell:0333-9229470

Sec Genral Raunawaz Khan Khattak  
Cell:0346-9252984  
0333-4933843  
0300-5973605

Date 07-12-2017

Ref 066.K.P.K. I.E-F. Peshawar

## منسوخی نوٹیفکیشن

خیبر پختونخواہ ایریکیشن ایسپلائز فیڈریشن کے صوبائی جنرل سیکرٹری رہنما خان خٹک نے مورخہ 8-5-2017 پر نگران نوٹیفکیشن جاری کیا تھا جس کی منسوخی پر صوبائی سید تحسین اللہ خیبر پختونخواہ ایریکیشن فیڈریشن نے دوسرا حکم نامہ جاری کیا۔ جس پر صوبائی صدر نے بہت افسوس کیا لیکن اب مالاکنڈ ایریکیشن کابینہ میں انتشار شروع ہوا ہے۔ جس کی بناء پر صوبائی صدر نے دوسرا حکم نامہ جاری کر کے دونوں کابینہ کے صوبائی جنرل سیکرٹری کا حکم نامہ بتاریخ 8-5-2017 جس کا صدر اجمل خان جو کہ صوبائی جنرل سیکرٹری نے ہمایا تھا اور دوسرا کابینہ 10-5-2017 پر بھیجی گئی کہ الٹ کیا گیا۔ اب اس انتشار کی وجہ سے صوبائی صدر نے دونوں کابینہ جس میں صدر شیخ اللہ نگران صدر ہو گا۔ کو تین مہینے میں دوبارہ انتخابات عمل میں لائیں گے۔

افسران بالا سے گزارش کی جاتی ہے کہ نگران کابینہ کے ساتھ ملازمین کے مسائل حل کرنے کے لئے تعاون کی اسید کی جاتی ہے۔

- کاپی برائے اطلاع:

نوٹ: انتشار کی وجہ سے دونوں کابینوں کو ختم کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے۔

جناب سیکرٹری ایریکیشن خیبر پختونخواہ پشاور  
جناب چیف انجینئر نارتھ/سائڈ تھ ایریکیشن خیبر پختونخواہ پشاور  
جناب لیبر جنرل صاحب خیبر پختونخواہ  
جناب پرنسپل انجینئر ایریکیشن سرکل مردان  
جناب ڈپٹی کمشنر مالاکنڈ  
جناب ایگزیکٹو انجینئر ایریکیشن مالاکنڈ  
جناب ایس ڈی اوز صاحبان ایریکیشن مالاکنڈ  
- ایف ڈی صدر اجمل خان - و - محمد نبی ایریکیشن مالاکنڈ  
جنرل پرنٹ میڈیا خیبر پختونخواہ


S Tahsinullah

سید تحسین اللہ

(صوبائی صدر ایریکیشن ایسپلائز فیڈریشن خیبر پختونخواہ)

*[Handwritten signature]*





Anx. B-16



**Khyber Pakhtunkhwa Irrigation Employees Federation k.P.K Peshawar**  
(Reg No 06/2008)

**Add: Chief Engineer Irrigation South Warsak Road Kababyan Peshawar.**

President. S.Tahsinullah  
Cell:0346-5663356

Vsp.Sadaqat Ali  
Cell:0333-9229470

Sec Genral Rabnawaz Khan Khattak  
Cell:0346-9252984  
0333-4933843  
0300-5973605

Ref \_\_\_\_\_

Date 20/4/2019

نوٹیفیکیشن

عنوان:- منسوخی نوٹیفیکیشن نمبر 0875 مورخہ 08/01/2019

سید حسین اللہ بحیثیت صدر خیر پختون خواہ اریگیشن ایسوسی ایشن کے استعفاء کو استعمال کرتے ہوئے اور کابینہ کے مہم داران سے مشاورت کر کے جنرل سیکریٹری خیر پختون خواہ اریگیشن فیڈریشن کا جاری کردہ نوٹیفیکیشن جو کہ اس نے غیر قانونی طور پر ضلع ملاکنڈ کے کابینہ کو ختم کر دیا اور وہی کابینہ جس میں صدر شفیع اللہ اور تمام دیگر اراکین کو بحالی کا نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہوں کیونکہ آئین کے روح سے جنرل سیکریٹری کو کابینہ ختم کرنے کا مجاز نہیں۔ لہذا وہی کابینہ جس میں صدر محمد دیگر مہم داران بحال رہے گا اور اپنے ملازمین کے مطالبات پر انہیں بالائے وقت وفاقا گفت شنود کر کے مسائل حل کرنے کی کوششیں کریں گے۔ اور یہ مہم داران اگلے منعقد ہونے والے الیکشن تک بحال رہے گے۔

شکر ہے

شعبہ اللہ	ممبر
محمد علی	جنرل سیکریٹری
نادر	مینبر نائب صدر I
رحمان سید	مینبر نائب صدر II
دعید	نائب صدر I
اجمل	نائب صدر II
منظور	ڈپٹی جنرل سیکریٹری
جنت علی	ایڈیشنل جنرل سیکریٹری
علی محمد	جوائنٹ سیکریٹری
ہلال احمد	ٹائٹل سیکریٹری
عبید اللہ	پریس سیکریٹری
سید ساجد اللہ	آفس سیکریٹری

سید حسین اللہ صدر  
سید حسین اللہ صدر خیر پختون خواہ  
اریگیشن ایسوسی ایشن فیڈریشن خیر پختون خواہ

کافی برائے اطلاع:

Attahid  
A

- 1 - ڈپٹی کمشنر ملاکنڈ
- 2 - سپرنٹنڈنٹ انجینئر اریگیشن سرکل مردان
- 3 - ایگزیکٹو انجینئر اریگیشن ملاکنڈ ڈویژن
- 4 - تمام سب ڈویژن آفسر ملاکنڈ ڈویژن
- 5 - تمام اخبارات



(10)

Ann-C-18

0375 مورخہ 08/01/2019 غیر قانونی غیر آئینی وغیر اخلاقی طور پر مدعی کو

صدارت کے عہدے سے برخاست کرتے ہوئے نوٹیفیکیشن نمبری

07/12/2017 منسوخ 046-KPK-I.E.F.Peshawar

کریے اور مدعا علیہ نمبر 4 کو خیبر پختونخواہ ایریکیشن ایسپلائز فیڈریشن ایریکیشن

ڈویژن مالاکنڈ کا صدر اور مدعا علیہ نمبر 5 کو یونین کا جنرل سیکریٹری ظاہر کرے۔

دعویٰ صدور حکم امتناعی دوائی بنام مدعا علیہان بدیں مضمون کہ مدعا علیہان ہرگز مجاز

نہیں ہیں کہ وہ مدعی کو بطور صدر خیبر پختونخواہ ایریکیشن ایسپلائز فیڈریشن

ایریکیشن ڈویژن مالاکنڈ تسلیم کرنے سے انکار کرے۔ نیز مدعا علیہان ہرگز مجاز نہیں

ہیں کہ وہ مدعا علیہ نمبر 4 کو یونین کا صدر اور مدعا علیہ نمبر 5 کو یونین کا جنرل سیکریٹری

ظاہر کرے۔

دعویٰ صدور حکم تاکیدی دوائی بنام مدعا علیہان بدیں مضمون کہ وہ خط نمبر 0375

مورخہ 08/01/2019 کو غیر آئینی وغیر قانونی تصور کرتے ہوئے مدعی کو خیبر

پختونخواہ ایریکیشن ایسپلائز فیڈریشن ایریکیشن ڈویژن مالاکنڈ کا صدر تسلیم کرے۔

مالیت بغرض کورٹ فیس و اختیار سماعت مبلغ 500/- روپے

مقرر کی جاتی ہے۔

دعویٰ مدعی اندر معیاد ہے اور عدالت حضور کو اختیار سماعت

مائل ہے۔

جج ناٹا

گزارشات منجانب مدعی حسب ذیل عرض ہیں۔

یہ کہ مدعی محکمہ ایریکیشن مالاکنڈ میں بحیثیت نائب قائد ملازم ہے۔

Alkhalid

(97)


Max. C - 19


بیان

سید تحسین اللہ جلد صفر اللہ - (مدعا علیہ کثرت)

حلفاً بیان کیا کہ میں مقدمہ بعنوان "تفہیم اللہ بنام  
 صداقت علی وغیرہ" میں مدعا علیہ کثرت نہیں۔ دعوی مدعی  
 درست تسلیم کرتا ہوں۔ اگر عدالت مقدمہ صدا میرے خلاف کثرت  
 میں ڈگری کرے تو مجھے کوئی اعتراض نہ ہے۔ اس نسبت میں  
 اقبال دعویٰ پیش کرتا ہوں جو کہ Ex: PA ہے۔

مسکدر درست تسلیم کرتا ہوں

  
 سید تحسین اللہ جلد صفر  
 سید تحسین اللہ (مدعا علیہ کثرت)


  
 (تحسین عباس)  
 سولہ ع/عدالت عالیہ سندھ  
 ملاکنڈ بھنگام بٹ ضلع  
 20/4/19

Attest  
A

بیان شفیق الشہ ولد غلام شاہ ساکن گدگت  
پیران تحصیل بٹھیلہ ضلع گدگت۔

حلفہ بیان کرتا ہوں کہ میں نے اپنے پاس  
معاذ بہ فلاں سرکاری دائرہ کیا ہے۔ اب چونکہ میں  
اس وقت گورنمنٹ ہسپتال میں ہوں۔ اس لیے بہ فلاں  
ضلعی ہیلتھ آفیسر سے رابطہ کیا ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں۔ درخواست  
میں آج والی مقدمہ نمبر PA 15402-47-01855-11-1  
استناد ہے کہ مقدمہ معاذ کے لیے دستبرداری کی ضرورت ہے۔

شکر درت تیسرا



المکرعوم 2024-07-01

Alhastad

*[Handwritten signature]*

01/07/19

میں نے اپنے پاس  
معاذ کے لیے دائرہ کیا ہے۔

تفصیل

پیران تحصیل بٹھیلہ ضلع گدگت

شفیق الشہ

شفیق الشہ ولد غلام شاہ ساکن  
گدگت تحصیل بٹھیلہ ضلع گدگت۔  
- 15402-47-01855-11-1 # 11-1  
تصانف میں درج ہے کہ معاذ کے لیے  
دستبرداری کی ضرورت ہے۔

Anx. D- 22

( )

## SHOW CAUSE NOTICE

I Engr: Ali Ur Rehman Executive Engineer Malakand Irrigation Division Malakand, under the Khyber Pakhtunkhwa Govt: servants (E&D) Rules 2011, do hereby serve you, Mr. Shafiullah Regulation Jamadar presently working in Dargai Irrigation Sub Division Dargai.

1. That consequent upon the completion of inquiry conducted against you by the enquiry officer for which you were given opportunity of hearing.
2. On going through the conclusion of the inquiry officer that your action tantamount to Black Mailing / Defamation of Govt: officers / officials through Print and Electronic Media.
3. Now therefore, the inquiry officer having considered the charges received vide Superintending Engineer Mardan Irrigation Circle Mardan letter No. 1123/75-E, dated 01.07.2020, as exercise of the powers under rules -4 (b) (iii) of Khyber Pakhtunkhwa (E&D) Rules 2011, was pleased to impose the major penalty of "**Dismissal from Govt: Service**" with immediate effect.
4. You are therefore, required show cause notice, as to why the aforesaid penalty should not be imposed upon you and also intimate, whether you desire to be heard in person.
5. If no reply to this show cause notice is received within 07 days of its delivery, it shall be presumed that you have no defense to put and in that case an ex-party action shall be taken against you.

9 David  
Show Cause Notice  
on 27/7/2020 on  
by hand, MLC  
27/7/2020

23/07/2020  
EXECUTIVE ENGINEER  
MALAKAND IRRIGATION DIVISION  
MALAKAND

*Attache*  
*[Signature]*

4.3.20

*Received*

*Amr. E. 23*

To,

The Enquiry Officer / S.D.O,  
Drainage irrigation sub Division Mardan.

Sub:

Reply of the show cause Notice / Questioner

Respected Sir,

The accused respondent employee humbly submitted as under in response of the show cause/ questioners notice dated nil regarding inquiry of the legal status of Khyber Pakhtunkhwa Irrigation Employees Federation (Ref: No 06/2008)

- i. That, the respondent / accused is regulation Jamadar in sub Divisional Officer, irrigation Dargai.
- ii. Para No 2 of the question is correct
- iii. That in response to Para No 3, it is submitted that "Irrigation Employees Union" was Registered as C.B.A vide registration No 13/89 by the competent authority. Under the aforementioned registration number notification No 680/IEU/I Peshawar dated 05-05-2003 was issued, wherein office bearers for Malakand Irrigation Division were legally nominated by the competent authority. (Notification annexed)

later on "Irrigation Employees Union" was converted to "Khyber Pakhtunkhwa Irrigation Federation KPK Peshawar" and lawfully registered vide Reg No 06/2008. The Provincial President vide Notification R. No 048 dated 20-04-2019, in consultation with the cabinet, restored the undersigned as president of the Irrigation

*Attested*

Employees Federation Malakand Division, Irrigation Deptt. And cancelled notification No 0875 dated 08-01-2019

- iv. That earlier the provincial President had nominated the undersigned as caretaker president of the KP Irrigation Employees Federation, Malakand Irrigation Division vide Notification Ref. No 046 K.P.K 1 E.F dated 07-12-2007.
- v. That the provincial General Secretary of KPK Irrigation Employees Federation vide Notification Ref: No 0875 dated 08-01-2019, cancelled the earlier notification regarding the undersigned which was challenged before the Civil Court in Case No 46/1 of 2019 by the undersigned. During proceedings of the Civil Suit, the Provincial President cancelled notification No 875 date 08-01-2019 vide notification No 048 dated 20-04-2019 and application dated 01-7-2019 was filed before the court and the case was withdrawn vide order / judgment dated 01-07-2019. Now the undersigned perform his duties as President of the "KPK Irrigation Employees Federation "Malakand Irrigation Division Vide Notification No 048 dated 20-04-2019.
- vi. That questioner No 4 does not relate to the undersigned directly. The "KPK Irrigation Employees Federation "has been registered as C.B.A vide registration No 06/2018 by the competent authority.
- vii. That, question No 5 is incorrect.
- viii. That, question No 6 is not correct.
- ix. That, question No 7 is not admitted as specific allegations have not been leveled against the undersigned.

Attokel  
S



- x. That, the allegations leveled in Para No 7 are vague and not specific, therefore the undersigned is unable to reply.
- xi. That, the Khyber Pakhtunkhwa Government Servants (Efficiency and Discipline) Rules 2011, empower the competent authority to take disciplinary action against an employee on charges of corruption, inefficiency and misconduct under the rules. The show-cause notice/questioner does not mention any specific allegation against the undersigned employee. The grounds of allegation mentioned in the questioner are vague, not specific and clear, therefore the undersigned is unable to comment. However, it is not admitted that the undersigned is guilty of any mis-conduct.

Hence, in light of the above facts and circumstances, it is humbly requested that the show-cause/questioner be disposed of without further legal proceedings as it is unnecessary to hold inquiry against the accused/undersigned under the service rules.

شہاب اللہ

Shafi Ullah Son of Zahir Shah

Regulation Jamadar

Sub Divisional Officer, Irrigation Dargai.

0343-5319327

Attested  
[Signature]

Amx - E - 26

To,

The Enquiry Officer / Deputy Collector,  
Mardan Irrigation Division Mardan,

Sub: Reply of the show cause Notice / charge  
Sheet dated 18-06-2020

Respected Sir,

The respondent employee humbly submitted as under .

- i. That, the para 1 of the charge sheet / statement of allegation is not correct, hence denied. The respondent-employee is not guilty of any mis-conduct. The respondent has not violated any provision of the E & D Rules 2011. The respondent is the District President of Khyber Pakhtunkhwa Irrigation Employees Federation which is a registered C.B.A under the relevant law. The charge-sheet dated 18-06-2020 neither reveal any specific statement of allegations against the respondent employee, nor specific news item of electronic and print media has been alleged for defaming specific government officer / officials of Malakand Irrigation Division, Malakand
- ii. That, the allegation leveled in the charge-sheet dated 18-06-2020, were previously agitated vide charge sheet dated nil regarding inquiry of the legal status of Khyber Pakhtunkhwa Irrigation Employees Federation, and the inquiry officer / S.D.O Drainage irrigation sub-division Mardan had been appointed to probe the matter. The respondent -employee had submitted a detailed reply wherein the aforementioned inquiry officer had not disposed up the matter for reason not known to the respondent - employee. The detail reply is annexed as a ready-reference.

R: *Amx*

*Amx*  
1.7.2020

~~27~~

Ans. E (27)

- iii. That the, respondent - employee has been suspended vide office order dated No 946/75-E dated Mardan, 09-06-2020 whereas the charge sheet has been issued on 18-06-2020 which is illegal and against the spirit of law.
- iv. That, the respondent - employee can't be axed twice for the same charges.
- v. That, the respondent - employee desire to be heard in person.

Hence, in light of the above facts and circumstances, it is humbly requested that the show-cause be disposed of without any further legal proceedings and the respondent employee be exonerated of the vague and baseless charges.

*Shafi Ullah*

1-7-2020

Shafi Ullah Son of Zahir Shah

Regulation Jamadar

Sub Divisional Officer, irrigation Dargai.

0343-5319327

*Attested*

To,

The Executive Engineer,


Malakand Irrigation Division, Malakand

Subject: Reply of the show cause notice dated ; 23/07/2020

Respected Sir,

The respondent / employee humbly submit as under in response to the show cause notice dated: 23/07/2020.

1. That in response in *Para No. 1* of the show cause notice, it is humbly submitted that the respondent/ employee is a faithful and law abiding servant under your esteemed office. The respondent employee has never used defamatory statement against any superior officer of the department through electronic and print media. The respondent / employee had requested for personal hearing vide reply of the earlier show cause notice dated 18/06/2020 to explain his position, which was denied by the inquiry officer. Opportunity of personal hearing is the legal right of the respondent employee which was denied and hence the finding of the inquiry officer is not in accordance with law and practice.
2. That the finding of the inquiry officer are not admitted as no opportunity of personal hearing has been provided to the respondent employee.  
Detail reply of *Para No 2* has already been submitted in reply dated 01/07/2020.
3. That the major penalty imposed by the inquiry officer is not appropriate and according to law hence not admitted. The respondent employee humbly request for personal hearing as provided by *Efficiency and Discipline rules 2011*.
4. That the aforesaid penalty imposed / recommended by the inquiry officer is against the spirit and parameters of *E and D rules 2011* therefore not tenable in the eyes of law. The respondent employee humbly request for personal hearing as provided by the prevailing rules of *E and D 2011*.

Attested  




OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER

MALAKAND IRRIGATION DIVISION MALAKAND

e-mail: - Irrigationmkd@yahoo.com

0932-452049

No. 1975 /7-E (Sub),  
Dated Malakand the 20 /08/2020.

OFFICE ORDER.

WHERE AS:- Mr. Shafiullah S/O Zahir Shah (Regulation Jamadar) declare himself as a President of un-registered and Illegal Employees Association, presently working in Dargai Irrigation Sub Division Dargai, who use to approach Print and Electronic Media for black mailing of Govt: officers/ officials for their self interest.

AND WHERE AS:- In this connection, I Engr: Ali Ur Rahman Executive Engineer Malakand Irrigation Division Malakand sent their case to Registrar Trade Union Labour Department to Solicite opinion. In reponse the Registrar Trade Union Malakand Division at Swat informed this office that as per record of their office, no Union in name and style of PWD Labour Union in Khyber Pakhtunkhwa is registered with Registrar Labour Department Swat communicated vide No. DL/RTU748-49, dated 23.01.2020.

WHERE AS:- In the mean while an enquiry was ordered against the official for defaming Govt: officers / officials for malafide intentions.

AND WHERE AS:- Subsequently charge sheet and statement of Allegation was served upon the official through the enquiry officer, but the official failed to submite written defence of his Unregistered Worker Union and have not shown any thing of the registration of their employee Association, which is mandatory under the rules.

WHERE AS:- Therefore, the enquiry officer having considered the charges received vide Superintending Engineer, Mardan Irrigation Circle, Mardan letter No. 1123/75-E, dated 01.07.2020, as exercise of powers under rules-4 (b) (iii) of Khyber Pakhtunkhwa (E&D) rules 2011, was please to impose the major penalty of "Dismissal from Govt: service" with immediate effect.

NOW WHERE AS:- After having lengthy correspondence and the power conferred upon the Competent Authority under the rules, because his action tantamount to black mailing / defemation of Govt: officers / officials through print and Electronic Media, the undersigned being Appointing Authority has been pleased to consider the services of Mr. Shafiullah Regulation Jamadar for major penalty of "Dismissal from Govt: Service" to "Compulsory Retirement from Govt: Service" with immeidate effect.

EXECUTIVE ENGINEER

*Ali H. Khan*

Copy forwarded for information and necessary action to the:-

1. Superintending Engineer, Mardan Irrigation Circle, Mardan w/r to his No.1123/75-E, dated 01.07.2020.
2. Mr. Ajmal Khan Deputy Collector Irrigation Mardan (Enquiry Officer).
3. Sub Divisional Officer, Dargai Irrigation Sub Division, Dargai. w/r to his No. 349/2-E, dated 07.08.2020.
4. District Accounts Officer Malakand.
5. DAO/HC (Local).
6. Official Concerned.

EXECUTIVE ENGINEER

*20/8/2020*

Ans. C. (B) (BP)

25-6-2020

~~CP~~

### CHARGE SHEET

I, Ali-ur-Rahman, Executive Engineer, Malakand Irrigation Division, Malakand as competent authority, hereby charge you, Mr. Shafiullah, Regulation Jamadar, while posted in Dargal Irrigation Sub Division Dargal (Malakand Irrigation Division, Malakand),

- 1- "that you while serving as Regulation Jamadar in Dargal Irrigation Sub Division of Malakand Irrigation Division, Malakand committed the act / omission of misconduct for defaming the government officers/officials of Malakand Irrigation Division through print and electronic media by using illegal / fake forum of PWD Worker Labour Union of Khyber Pakhtunkhwa".
- 2- By reason of above you appear to be guilty of misconduct under rules 3 of the government of Khyber Pakhtunkhwa government servant (E&D Rules) 2011 and have rendered yourself liable to all or any of the penalties specified under rules 4 of the rule ibid.
- 3- You are therefore, required to submit your written defense within 07 days of the receipt of this charge sheet through the enquiry officer.
- 4- Your written defense if any should reach the enquiry officer within the specified period failing which it shall be presumed that you have no defense to put in and in that case ex-parte action shall be taken against you.
- 5- Intimate whether you desire to be heard in person.
- 6- The statement of allegation is enclosed.

*Ali-ur-Rahman*

*8/6/2020*  
Executive Engineer,  
Malakand Irrigation Division,  
Malakand

Ans. G - 39

### STATEMENT OF ALLEGATION

I, Ali-ur-Rahman, Executive Engineer, Malakand Irrigation Division, Malakand am of the opinion that:-

- 1- "Mr. Shafiullah, Regulation Jamadar, while posted in Dargai Irrigation Sub Division, Dargai of Malakand Irrigation Division, Malakand has rendered himself liable to be proceeded against as he committed the following acts/omissions within the meaning of relevant Civil Servant (E&D) Rules 2011".
- 2- For the purpose of enquiry against the said accused Mr. Ajmal Khan Deputy Collector, Mardan Irrigation Division Mardan has been appointed as "Enquiry Officer"
- 3- Enquiry Officer shall provided reasonable opportunity of hearing to the accused, recorded his finding and submit report within 30 days.
- 4- The accused and the well conversant representative of Malakand Irrigation Division, Malakand shall join the proceeding on the date/time and place fixed by the Enquiry Officer.

18/6/2020  
Executive Engineer  
Malakand Irrigation Division  
Malakand

*Alhaskel*

سوال نامہ برائے شیفہ اللہ ریگولیشن جمہ دار ایریگیشن ڈویژن ملاکنڈ

- ۱۔ کیا یہ درست ہے۔ کہ آپ ملاکنڈ ایریگیشن ڈویژن میں بطور ریگولیشن جمہ دار تعینات ہیں؟
  - ۲۔ بطور سرکاری اہلکار آپ خیبر پختونخوا سروس رولز 2011 کے زمرے میں آتے ہیں؟
  - ۳۔ کیا یہ درست ہے۔ کہ آپ CBA نمبر 1389 کے صدر ہیں؟
  - ۴۔ اگر آپ CBA مذکورہ کے صدر ہیں۔ تو آپ نے محکمہ لیبر ڈیپارٹمنٹ سے رجسٹریشن کرائی ہے۔ دستاویزی ثبوت شامل کریں۔
  - ۵۔ اگر آپ نے ایک غیر رجسٹرڈ تنظیم بنائی ہے۔ تو آپ کا یہ فعل سروس رول کے منافی ہے۔ جواب شامل کریں۔
  - ۶۔ آپ غیر رجسٹرڈ تنظیم چلانا دھوکہ دہی کے زمرے میں آتا ہے۔ جواب شامل کریں۔
  - ۷۔ آپ کا یہ فعل محکمہ ایریگیشن کے قواعد و ضوابط اور وقار کے منافی ہے۔ صفائی پیش کرے۔
  - ۸۔ آپ نے کس قانون کے تحت پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں محکمہ کے خلاف ہرزہ مرائی کی ہے۔ جو کہ محکمہ کے ساتھ کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ صفائی بمعہ ثبوت پیش کریں۔
  - ۹۔ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں جانے سے پہلے سرکاری اہلکار کو مجاز آفیسر سے اجازت طلب کرنا ضروری ہے۔ آپ نے کب اور کس سے اجازت طلب کی ہے۔ جو کہ KPK سروس رولز 2011 کے تحت تمام سرکاری اہلکاران بمعہ رجسٹرڈ تنظیم پر واجب ہے۔ صفائی بمعہ ثبوت پیش کریں۔
- نوٹ: اس سوال نامہ کے جوابات تین دن کے اندر اندر انکوائری آفیسر کو پیش کریں۔

انکوائری آفیسر سب ڈویژنل آفیسر  
ڈیپنچ ایریگیشن سب ڈویژن مردان

Attached  
A



To,

**THE CHIEF ENGINEER NORTH,**  
Irrigations Department,  
Khyber Pakhtunkhwa,  
At Kababiyar, Peshawar

Subject: APPEAL/DEPARTMENT REPRESENTATION  
AGAINST THE IMPUGNED ORDER DATED  
20/08/2020 IN WHICH IMPOSED ON THE  
APPLICANT MAJOR PENALTY OF  
"DISMISSAL FROM SERVICE" BY THE  
RESPONDENTS DUE TO ALLEGED  
ALLEGATIONS WITHOUT PROPER INQUIRY,  
NO OPPERTUNITY OF PERSONAL HEARING,  
NO CROSS EXAMINATION OF WITNESS HAS  
BEEN GIVEN, THE WHOLE INQUIRY WERE  
DONE BY INQUIRY OFFICER/EXECUTIVE  
ENGINEER WITH THE MALAFIDE  
INTENTION, MALICIOUS PROSECUTION,  
WITHOUT COGENT EVIDENCE WHICH IS  
AMOUNT TO MISCARRIAGE OF LAW AND  
MISCARRIAGE OF JUSTICE.

Respectfully Sheweth:

1. That the applicant is permanent resident of District Malakand and is performing his duty as "Regulation jamadar" in the office of Dargai Irrigation Sub Division Dargai.

Attested  
[Signature]

5666  
04/9/2020

2. That the applicant is posted as Regulation ~~Officer~~ in department on 28/02/2004 and till *before* date performed his duty in District Malakand with full zeal and zeest, with full devotion without nay complaint from his high ups.
3. That the applicnat has tried his level best to performed his duty with full zeal and zeest and devotion.
4. That the Department Official given show cause notice to the applicant without any Official No and date, which was duly replied by the applicant on 04/03/2020, 01/07/2020 and 23/07/2020 respectively along with attested copies of civil suit, statement and judgment regarding his status of Employees Union (CBA No. 1389) Irrigation Department.
5. That the applicant is served with office impugned order No. 1975/7-E(Sub), dated Malakand The 20/08/2020, through which the applicant dismissed from his service.
6. That the applicant dismissal from his service without adopting due process of law nor according with the rules and regulations laid down in the services rules and structure which is in effective upon the rights of the applicant.

*Attested*  
*[Signature]*

7. That alleged allegation levelled against the applicant was not proved till date, no proper inquiry has been conducted, no opportunity of personal hearing has been given, no examination of cross witnesses because the official have not witness nor any evidence against the applicant and without fulfilment of process of law, but the respondents/inquiry officers conducted one sided inquiry with malicious prosecution, with the malafide intention, without any cogent reason while imposed major penalty "dismissal from service" on the applicant is against the norms of justice.
8. That the respondent has committed serious illegalities and irregularities while issuing the impugned dismissal order as no cogent reason is mentioned while imposing the major penalty, hence the impugned order is illegal, unlawful, void-ab-initio as well as corum-non-judice.
9. That the impugned order of the respondent is against the principle of natural justice and as no chance of personal hearing is given to the applicant while conducting the alleged inquiry as well as issuing impugned order.
10. That the impugned order is even against the Constitution of Islamic Republic of Pakistan

Attested  
[Signature]

Am G. 37

1973 as well as principle of policy, hence the same are liable to be set aside.

11. That the applicant is treated against the law, rather discriminately been treated and with malafide, hence the impugned orders are liable to be set aside.

For the aforesaid reasons, it is, therefore, humbly prayed that by accepting of this departmental appeal/representation, the impugned order dated 20/08/2020, whereby the applicant dismissed from his service as major penalty may graciously please be set aside by declaring the impugned orders as illegal, unlawful, against the rules, regulations governing the subject matter, constitution and the applicant may be reinstated without imposition of any kind of penalty with all back benefits.

Dated:-04/09/2020

Applicant *Shafiullah*

**Shafiullah**

Regulation Jamadar  
Dargai Irrigation Sub  
Division Dargai.

**Note:**

All the relevant documents and impugned order dated 20/08/2020 are attached herewith.



*4-9-20*  
0343-5319327

*Attested*  
*[Signature]*

Ans G-38



OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER (NORTH)  
IRRIGATION DEPARTMENT PESHAWAR.  
Phone 9222819 & Fax No 9212123

No. 3410 /Rev/CC/1-R/Mardan

Dated Peshawar the 18/11/2020

To

✓ Mr. Shafi Ullah, Regulation Jamadar ~~and~~  
Dargai Irrigation Sub Division,  
Dargai.

Subject: APPEAL/DEPARTMENT REPRESENTATION AGAINST THE IMPUGNED ORDER DATED 20.08.2020 IN WHICH IMPOSED ON THE APPLICANT MAJOR PENALTY OF "DISMISSAL FROM SERVICE" BY THE RESPONDENTS DUE TO ALLEGED ALLEGATION WITHOUT PROPER ENQUIRY, NO OPPORTUNITY OF PERSONAL HEARING, NO CROSS EXAMINATION OF WITNESS HAS BEEN GIVEN THE WHOLE ENQUIRY WERE DONE BY INQUIRY OFFICER/EXECUTIVE ENGINEER WITH THE MALAFIDE INTENTION, MALICIOUS PROSECUTION, WITHOUT COGENT EVIDENCE WHICH IS AMOUNT TO MISCARRIAGE OF LAW AND MISCARRIAGE OF JUSTICE.

I am directed to refer to the subject noted above and to state that your appeal was referred to Superintending Engineer Mardan Irrigation Circle Mardan for report wherein he stated that an inquiry was ordered by this office vide letter No. 462/158-M, dated 21/02/2020 and Mr. Kifayat Ullah Khan the then SDO Drainage Irrigation Sub Division Mardan was nominated as inquiry officer to conduct fact finding inquiry against the following officials regarding mis-use of powers through un-Registered worker union.

- (i) Mr. Ajmal Khan (Mate)
- (ii) Mr. Shafi Ullah (Regulation Jamadar)

2. The inquiry officer conducted a detailed fact finding inquiry through which both the officials were found guilty and accordingly Mr. Muhammad Ajmal Khan Deputy Collector Irrigation Division Mardan nominated as inquiry officer vide this office No. 946/75-E, dated 09-06-2020 to conduct formal inquiry in the matter against the above named officials, wherein dismissal from service for Shafi Ullah (Regulation Jamadar) and compulsory retirement from service for Mr. Ajmal Khan (Mate) was recommended by the inquiry officer.

*Attest*  
*[Signature]*

Mr G-39

3. In light of the above the Executive Engineer Malakand Irrigation Division Malakand being competent authority, served show cause notices upon both the officials and were called for personal hearing on 29-07-2020.

4. The competent authority (Executive Engineer Malakand Irr: Division Malakand) revised the penalties imposed by the inquiry officer of both the said officials;

S.No	Name of official	Recommendation of the inquiry officer	Penalty imposed by the competent authority	Remarks furnished by Executive Engineer Malakand Irr: Division Malakand (Competent Authority)
1.	Mr. Ajmal Khan (Mate)	Compulsory Retirement from Govt: Service	CENSURE	The officials was already retired from Govt: service on 30-06-2020, while the inquiry report was received through letter No. 1123/75-E dated 01-07-2020, therefore the penalty was imposed as CENSURE as the accused official was already retired.
2	Mr. Shafi Ullah (Regulation Jamadar)	Dismissal from Govt: Service	Compulsory retired from Govt; service.	The penalty of compulsory retirement was imposed in place of dismissal from govt: service on humanitarian ground, so that the pensionary benefits other perks and privileges of the official may no effected.

5. As explained above, the appellant has not been "dismissed from his service" but "Compulsory retired from Govt: service" with all pensionary benefits, perks and privileges.

6. The appeal is therefore not found line with the penalty imposed upon the appellant and also not found in-line with rule 17(1) of Khyber Pakhtunkhwa govt: service E&D rules 2011.

  
CANAL COLLECTOR (8)

Copy to the:-

1. Superintending Engineer Mardan Irrigation Circle Mardan w/r to his letter No. 2369/75-E dated 28-10-2020 for information please.
2. Executive Engineer Malakand Irrigation Division Malakand for information.
3. PA to Chief Engineer (North) Irr: Department Peshawar.

CANAL COLLECTOR

Before the Service  
Tribunal U.P.V. Patkaur

Petitioner 2 پنجاب  
بنام

Shajiullah

موری

مقدمہ

دعوی

جرم

Sent of U.P.V. & Manager  
Chief Secretary & others

باعث تحریر آنک

حالی صورت سناؤ

مقدمہ مندرجہ عنوان بالا میں اپنی طرف سے واسطے پیروی و جواب دہی وکل کارروائی متعلقہ  
آن مقام سپرو سٹریٹس سٹام کیلئے اپیل نوڈ علی لٹری انڈسٹریز  
مقرر کر کے اقرار کیا جاتا ہے۔ کہ صاحب مہ صوف کو مقدمہ کی کل کارروائی کا کامل اختیار ہوگا۔ نیز  
وکیل صاحب کو راضی نامہ کرنے و تقرر ثالث وین علی حلف دینے جواب دہی اور اقبال دعوی اور  
بصورت ڈگری کرنے اجراء اور وصولی چیک و روپیہ لایٹری اور درخواست ہر قسم کی تصدیق  
زرائیں پر دستخط کرانے کا اختیار ہوگا۔ نیز صورت عدم پیروی یا ڈگری یا لٹری کی برآمدگی  
اور منسوخی نیز دائر کرنے اپیل نگرانی و نظر ثانی و پیروی کرنے کا مختار ہوگا۔ از بصورت ضرورت  
مقدمہ مذکور کے کل یا جزوی کارروائی کے واسطے اور وکیل یا مختار قانونی کو اپنے ہمراہ یا اپنے بجائے  
تقرر کا اختیار ہوگا۔ اور صاحب مقرر شدہ کو بھی وہی جملہ مذکورہ باختیارات حاصل ہوں گے  
اور اس کا ساختہ پر داختم منظور قبول ہوگا دوران مقدمہ میں اپنے چھپے ہر جانہ التوائے مقدمہ کے  
سبب سے وہ ہوگا۔ کوئی تاریخ پیشی مقام دورہ پر ہو یا حد سے باہر ہو تو وکیل صاحب پابند ہوں  
گے۔ کہ پیروی مذکور کریں۔ لہذا وکالت نامہ لکھد یا کہ سندر ہے

صفحہ اول

2010

دسمبر

ماہ

المرقوم

الع دگ الوا الع

مقام سنیار سپرو سٹریٹس سٹام کے لئے منظور ہے۔